

Q:- Punctuate the following text, where necessary

Unfortunately, we often miss a big school lesson. Every big task consists of several small ones done precisely and perfectly. As a nation, we actually need to learn the art of breaking down our moonlit goals into small accomplishable tasks. It will reduce frustration, anxiety, depression in society, and embarrassment for the government machinery, too, as they don't have to defend their unkept promises.

That familiarity produces neglect, has been long observed. The effect of all external objects, however, great or splendid, ceases with their novelty: the courtier stands without emotion in the royal presence; - the music tramples under his foot; the beauties of the spring, with little attention to their colours or their fragrance; and the inhabitant of the coast, casts his eye upon the immense diffusion of waters, without awe, wonder, or terror.

1. The Knarish wolf was ~~was~~ able to ~~ummum~~ convince the pig to let him into his home.

2. I looked this word: up in the dictionary but I still don't understand it.

3. I need to learn these verbs by heart by tomorrow.

4. The morgue is redolent with the odore of deceased individuals.

5) He is cogitating on some means of revenge

6. He was reticent to do anything about the problem.

7. His body is impervious to moisture

8. Ahmad applied at the bank for a loan.

### ESS-2020

1. I was annoyed with him

2. The pistol went off by accident.

3. He was knocked down by the bus

4. The meeting was put off by the chairman.

5. This train is bound for Guyarat

6. He kept on asking silly questions.

7. Do not meddle in my affairs

8. He rounded up his speech with a quote from Ghalib.

Q. 7. Translate the following Urdu paragraph into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

(10)

لابور شہر سیاست ہی نہیں ثقافت کا بھی قدیم مرکز ہے۔ مغلوں کی ثقافت نے عروج کا زمانہ اس شہر میں دیکھا۔ سکھ ثقافت کا بھی یہی مرکز تھا۔ علم و ادب کی ثقافت بھی اسی شہر کے حصہ میں آئی۔ اہل تصوف کا بھی یہی مرکز تھا۔ تصوف کی مشہور کتاب کشف المجبوب کے مصنف حضرت علی ہجویری المشہور حضرت داتا گنج بخش بھی اسی شہر میں مدفون ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بھی لابور کا فیشن پورے ہندوستان میں راجح ہوتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی اس شہر کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔

Page 2 of 2

Lahore city is the ancient hub of not only politics but also culture. Mughal culture saw its era of zenith in this city. It was also the center of Sikh culture. Culture of knowledge and literature is also the part of this city. It was also the hub of people with mystical beliefs. The author of famous book on mysticism, Kashaf-ul-Majood, Hazrat Ali Haideri also known as Hazrat Data Ganj Bakhsh is also buried in this city. During British rule, the fashion of Lahore was prevalent in all over India. This city has not lost its importance even after the creation of Pakistan.

(10)

Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

دنیا کی ہر قوم کا نظام تعلیم ہنی قوم کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا ہے جو قوی اور ملی مقاصد کی تکمیل و تکمیل کرتا ہے۔ اور قوم مطلوبہ مقاصد کے لیے سرگرم عمل رہتی ہے۔ چنانچہ کسی قوم کا نظام تعلیم وہ ہے گیر نظام تربیت ہے جس کے تحت قوم کے افراد کی ذہنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان کی سیرت و کردار کی تحریر میں مدد ملتی ہے۔ نظام تعلیم افراد کی تربیت اس انداز سے کرتا ہے کہ افراد قوم کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔

\*\*\*\*\*

Dale  
16 Aug 23

css - 2020

Education system of every country of the world is compatible to the temperament of its nation, which complets and molds the national objectives. And the nation remains active for the desired objectives. Therefore, education system of any country is that comprehensive versatile ~~et~~ training system, which helps in uplifting mental capabilities and in building character and conduct of the individual of a nation. Education system trains the individual in such a way that individual changes the destiny of the nation.

پاکستان، افغانستان میں امن کے لیے پڑ عزم ہے کیونکہ افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پڑو سی برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے تاریخی، ثقافتی، انسانی رشتہوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ رشتے انوٹ ہیں، دونوں کا انحصار ایک دوسرے پر ہے اور دونوں الگ الگ رہ بھی نہیں سکتے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے ہبھی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا یا اسی حل نکالا جائے۔ اس موقف کی حمایت چین بھی کرتا ہے۔ اس ضمن میں چین نے کہا ہے کہ افغان تبازع کا افغان قیادت میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور چین اسٹریجیکٹ شرکت

داری کے لیے افغان تبازع کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں لپٹا کر دارا دا کریں گے۔

\*\*\*\*\*

Pakistan is determined for peace in Afghanistan because peace in Afghanistan, is very important for Pakistan. If seen in historical context, Pakistan and Afghanistan, being neighbouring Islamic countries, are tied in historical, cultural and linguistic relationships. These relations are unbreakable, both are dependent upon each other and both can't survive separately. Pakistan's stance from the day 1 is to find the political solution of Afghan issue. China also supports this stance. In this context, China is of the view that the solution of Afghan conflict is possible through peaceful negotiations under Afghan leadership. Pakistan and China will play their roles for the strategic partnership to resolve the Afghan conflict through negotiations.